



JUZ 9 - PART 2

SURAH AL-A'RAF 88-206

ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
کنارے پر	ح ض ر	حَاضِرَةٌ	163
مچھلیاں ان کی	ح و ت	حَيْثَانُهُمْ	
ذلیل	خ س أ	خُسَيْبِينَ	166
خبر دی	أ ذ ن	تَأَذَّنَ	167
حقیر دنیا کا	د ن و	الْأَدْنَى	169
مضبوطی سے پڑتے ہیں	م س ك	يُمَسِّكُونَ	170
اٹھایا ہم نے	ن ت ق	نَتَقْنَا	171
پس وہ نکل گیا	س ل خ	فَأَنسَلَخَ	175
گمراہوں میں سے	غ و ی	الْغَوِيْنَ	
وہ زبان لٹکاتا ہے	ل ه ث	يَلْهَثُ	176
پیدا کیا ہم نے	ذ ر أ	ذَرَأْنَا	179
اور چھوڑ دو / وہ چھوڑ دیتا ہے انھیں	و ذ ر	وَذَرُوا / يَذَرُهُمْ	180
کج روی کرتے ہیں	ل ح د	يُلْحِدُونَ	
ضرور ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انھیں	د ر ج	سَنَسْتَدْرِجُهُمْ	182
میں مہلت دے رہا ہوں	م ل ی	أَمَلِيَّ	183
قریب آچکی	ق ر ب	اقْتَرَبَ	185
بات کے	ح د ث	حَدِيثٍ	
ٹھہرنا اس کا	ر س و	مَرَسِبَهَا	187
ظاہر کرنے گا اسے	ج ل و	يُجَلِّيْهَا	
بھاری ہوگی	ث ق ل	ثَقَلَتْ	

پورے باخبر ہیں	ح ف ی	حَفِيٌّ	
پہنچتی مجھے	م س س	مَسْنَى	188
اس نے ڈھانپ لیا سے	غ ش ی	تَغَشَّهَا	189
پس وہ چلتی رہی	م ر ر	فَمَرَّتْ	
وہ بو جھل ہو گئی	ث ق ل	أَثْقَلَتْ	
خاموش رہو	ص م ت	صَامِتُونَ	193
وہ چلتے ہوں	م ش ی	يَمَشُونَ	195
وہ پڑتے ہوں	ب ط ش	يَبْطِشُونَ	
آنکھیں	ع ی ن	أَعْيُنٌ	
چال چلو میرے خلاف	ک ی د	كِيدُونَ	
و سوسہ آئے آپ کو	ن ز غ	يَنْزِعَنَّكَ	200
پس پناہ طلب کیجیے	ع و ذ	فَاسْتَعِذْ	
وہ کھینچتے ہیں انہیں	م د د	يَمْدُونَهُمْ	202
وہ کمی کرتے	ق ص ر	يُقْصِرُونَ	
چن لایا تو اسے	ج ب و	اجْتَبَيْتَهَا	203
اور خاموش رہو	ن ص ت	وَأَنْصِتُوا	204
بلند	ج ہ ر	الْجَهْرِ	205
اور شام کے وقت	أ ص ل	وَالْأَصَالِ	
وہ تسبیح کرتے ہیں اسکی	س ب ح	يُسَبِّحُونَهُ	206

SURAH AL-ANFAL 1-40

غنیمتوں کے بارے میں	ن ف ل	الْأَنْفَالِ	1
ڈر جاتے ہیں	و ج ل	وَجَلَّتْ	2
پڑھی جاتی ہیں	ت ل و	تُلِيَتْ	
وہ توکل کرتے ہیں	و ک ل	يَتَوَكَّلُونَ	

وہ ہانکے جا رہے تھے	س و ق	يُسَافُونَ	6
وعدہ کر رہا تھا تم سے	و ع د	يَعِدْكُمْ	7
تم چاہتے تھے	و د د	تَوَدُّونَ	
جڑ	د ب ر	دَابِرَ	
تم فریاد کر رہے تھے	غ ی ث	نَسْتَعِينُونَ	9
ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے	ر د ف	مُرْدِفِينَ	
اوگھ	ن ع س	النَّعَاسَ	11
جوڑ پر / پور پر (Fingertips)	ب ن ن	بَنَانٍ	12
پیشتر ابدلنے والے کے	ح ر ف	مُتَحَرِّفًا	16
پناہ لینے والے کے	ح و ز	مُتَحَيِّرًا	
تم فیصلہ چاہتے ہو	ف ت ح	نَسْتَفْتِحُوا	19
گروہ تمہارا	ف ا ی	فِرْيَاكُمْ	
قبول کر لو	ج و ب	اسْتَجِيبُوا	24
وہ حائل ہوتا ہے	ح و ل	يَحُولُ	
اچک لیں گے تمہیں	خ ط ف	يَتَخَطَّفُكُمْ	26
پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں	ا و ی	فَاوْبَكُمْ	
نہ تم خیانت کرو	خ و ن	لَا تَخُونُوا	27
کہانیاں	س ط ر	اَسَاطِيرُ	31
پہلوں کی	ا و ل	الْاَوَّلِينَ	
تو برسا	م ط ر	فَأَمْطَرَ	32
سیٹیاں بجانا	م ک و	مُكَاةً	35
تاکہ جدا کر دے	م ی ز	لِيَمِيزَ	37
پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کے	ر ک م	فَيْرَكُمَهُ	